



## سوال

(331) ٹھیکے والی زمین کا عشر کون ادا کرے مالک یا کاشتکار؟

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

جو لوگ زمین ٹھیکے (کرایہ) پر دیتے ہیں، اس کا عشر مالک زمین ادا کرے گا یا زمین کو کاشت کرنے والا؟ (عبد الستار خطیب جامع مسجد اہل حدیث سنبہ خورد) (۱۰ جولائی، ۱۹۹۲ء)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

ٹھیکہ وضع کر کے باقی آمدن کا عشر زمین کاشت کرنے والا ادا کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَتُواخْتَفَاءَ يَوْمَ حَصَادِهِ ... ۱۴۱ ... سورة الانعام

”اور جس دن (پھل توڑو اور کھیتی) کا ٹوٹو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو۔“

وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت میں مذکور خطاب صرف کاشت کار کو ہے چاہے مالک ہو یا غیر۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 295

محدث فتویٰ